

Persian Fa Part 1 Full Book Online Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	نظم تہلی کے شاعر ہیں	A. علامہ اقبال B. ابرج مرزا C. ملک شعراہی پهار D. حافظ شیرازی
2	علامہ اقبال کے کلام میں رنگ نمایل ہے	A. نزاکت و نفلست B. حسن و عنق C. رمزواہما D. حسن تنزل
3	ایک گہرا ربط پایا جاتا ہے مناظر فطرت اور درمیان	A. انسان B. کائنات C. خوبصورتی D. شاعری
4	علامہ اقبال کو بہت لگائی تھا	A. شاعری B. موسیقی C. غزل گونی D. نظم گونی
5	علامہ اقبال اپنے کلام کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہتے تھے	A. بر صغیر B. پندوستان C. پاکستان D. افغانستان
6	علامہ اقبال یونیورسٹی اور یونیٹ کالج لابور میں فلسفے کے استاد معین ہوئے	A. 1894ء B. 1896ء ^{C. 1899ء} D. 1901ء
7	علامہ اقبال مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے	A. 1920ء B. 1924ء C. 1926ء D. 1930ء
8	علامہ اقبال گورنمنٹ کالج لابور میں فلسفے کے استاد مقرر ہوئے	A. 1905ء B. 1903ء ^{C. 1908ء} D. 1906ء
9	علامہ اقبال پنجاب اسمبلی کے رکن بنے	A. 1930ء B. 1936ء ^{C. 1932ء} D. 1934ء
10	علامہ اقبال نے ایف اے تک تعلیم حاصل کی	A. کراچی B. لابور ^{C. سیالکوٹ} D. راولپنڈی
11	"ارزش ورزش" کے مصنف کا نام ہے	A. امام غزالی B. علامہ اقبال ^{C. شعیب احمد} D. معین نظامی
12	پسینہ آئے سے جسم سے خارج ہوتے ہیں	A. زبریلے مادے ^{B. نقصان دو مواد} C. نمکیات D. فاندہ مند مادے
13	کلبی انسان کو لوے جاتی ہے	A. بلندی پر ^{B. ناکامی کی طرف} C. پستی کی طرف D. کامیابی کی طرف
14	گرشتہ زمانوں میں کام باتھے اور سر انعام پاتا تھا	A. بدن کی طاقت سے ^{B. قوت سے} C. نباتت سے ^{D. دولت سے}
15	صحت مذ روح بمیشہ صحت مذ میں بوتی ہے	A. دماغ ^{B. دل} ^{C. جسم} D. ذہن

- 16 بمن زندگی میں ترقی کرنے کے لئے ضروری ہے
A. سرمائی
B. صحت مند جسم و روح
C. اقدار
D. تعلقات
- 17 بمن اپنی ناکامیوں پر نہیں ہونا چاہیے
A. غمگین
B. اداں
C. جذباتی
D. دلیرداشتہ
- 18 ہمیں اپنی کامیابیوں پر نہیں ہونا چاہیے
A. مغور
B. خوش
C. آپس سے بابر
D. جذباتی
- 19 ورزش کرنے سے جسم میں خون
A. سست ہو جاتا ہے
B. تیزی سے موڑتا ہے
C. گاز ہا ہو جاتا ہے
D. زیادہ ہو جاتا ہے
- 20 صحت و صفائی کے لئے کیا چیز زیادہ ضروری ہے؟
A. گوشت
B. مرغن غذا
C. ورزش
D. کاربو بلیٹریٹ